

Tilka Manjhi was amongst the first freedom fighters who fought against the oppressive rule of the British in India. He led a five-year uprising against the British and without doubt he should be considered as one of the precursors of the national liberation movement which gathered momentum under the leadership of Mahatma Gandhi. Tilka Manjhi was perhaps amongst the first martyrs of the freedom struggle -- he was hanged by the British in Bhagalpur in 1785.

We are today constantly seized with a blaze of eulogy of many leaders including some who hold high offices. A number of schemes, iconic buildings, airports, etc., are named after such leaders. Yet there is no recognition to this great Santhal leader who made the ultimate sacrifice for the fruits of freedom and democracy that we pride ourselves today. To give due recognition to the first freedom fighter of India, I would urge the following to be considered as a token tribute to this great tribal revolutionary :

- (a) Examine and consider declaring him as the first martyr of India's freedom struggle.
- (b) Department of School Education and Literacy should introduce in the NCERT books a section dealing with contribution to freedom struggle by early leaders like Tilka Manjhi.

Demand to provide electricity and loans to the farmers at cheaper rates and other infrastructural facilities

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं हिन्दुस्तान की उस सबसे बड़ी आबादी की दर्दनाक दास्तान की तरफ इस महान सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो आबादी अन्नदाता के नाम से जानी जाती है। यह वह किसान है जो उस तपती धूप में खेत की मेड़ पर खड़ा होता है, जिस धूप में निकलने भर से अमीर लोगों के चेहरे झुलस जाया करते हैं। मैं उस किसान का दर्द बयान करने लिए आज इस महान सदन में खड़ा हुआ हूँ, जो कड़ाके की ठंड में पानी और कीचड़ में खड़ा होकर तमाम देशवासियों के लिए अन्न पैदा करता है। जब गेहूँ की सुनहरी बाली खेत को सुनहरा करती है, तब इस किसान के मुरझाये हुए चेहरे पर चमक आ जाती है। किसान इस फसल से आस बांध लेता है, लेकिन उसकी यह आस सरकारों की बेरुखी और नज़रअन्दाज़ी से टूटकर बिखर जाती है।

उपसभापति महोदय, सरकारों का किसानों से बेरुखी का आलम यह है कि मीडिया में आई जानकारी के अनुसार सरकार की ही संस्था एफ.सी.आई. का मानना है कि पिछले 5 सालों में 1,94,502 मीट्रिक टन अनाज बरबाद हो चुका है। पिछले 4 सालों में अनाज, फल और सब्जियां जो उचित व्यवस्था न होने के कारण बरबाद हुए हैं, उनके मूल्यांकन किया जाए तो पता चलता है कि इस बरबाद फसल की कीमत 2,06,000 करोड़ रुपए रही है। हमारा किसान जितना पैदा करता है उसका लगभग चौथाई हिस्सा ही सरकार सुरक्षित रख पाती है और एक-तिहाई यानी लगभग 200 मिलियन टन अनाज कहां रखा जाए, इस सवाल के कारण हर साल 44 हजार करोड़ रुपए का अनाज सड़ाकर फेंक दिया जाता है।

[چوڈھری منور سلیم (اثر پردیش)]

مہودے، اگر برباد ہونے والا اन्न دُنیا کے بازار میں بے‌چکر کسانوں اور گراموں کے وکاس پر خرچ کر دیا جاے تو مےرا داوا ہے کہ گرامवासियों کا پلايَن رُک سکتا ہے، کي�ںکی سُوَیْدا یُکْت گرام ہی آبااد رُھ سکتے ہیں۔ مہودے، سَرکاروں دُورا لگاتار شہروں اور گرام کے وکاس پر خرچ کا جو اَنْتَر دِرخاई دے رُھا ہے، اُسسے گاंवوں اور شہروں کے بےچ نَفَرَت پَدا ہو رُھی ہے، جو دَشا کی اَکْتا، اَخْوَڈتا اور وکاس کے لَیْا غااتک دِرخاई دَتی ہے۔

میں سَرکار سے پُرجور ماंग کرتا ہوں کہ اُڈوگپتियों کی تَرھ کسانوں کو سسْتی بَیْجلی دی جاے اور سسْتی بَیْج دَر پر لَوَن دِیا جاے تَھا بَیْجلی، پانی، سڈکوں، سْکُولوں اور اَسْپتالوں سے یُکْت گراموں کو بناوا جاے۔ مہودے، مَری اِس وُیْثا کو اُگر سَرکار سَمْجھ جاے تو باپُو دُورا بولا گا اِھ جُملتا سَچ ہو جاےگا، اِیسمیں باپُو نے کُھا تَھا کہ گاंव بَگواَن نے بنااے ہیں اور شہر اِساَن نے اِذْنیواَد۔

†[چوڈھری منور سلیم (اثر پردیش) : اِپ سَیْھا پْتی مہودے، میں ہِنْدوَسْتان کی اِس سَب سے بڑی اُباَدی کی دَرْدناک داسْتان کی طَرَف اِس مہاَن سَدَن کا دَھیان اَکْرشْت کرنا چاہتا ہوں، جو اُباَدی اِن-داُنا کے نام سے جاَئی جاتی ہے۔ یہ وہ کسان ہے جو اِس تَپْتی دَھوَب میں کَھیت کی مِٹْر پر کَھڑا ہوتا ہے، جس دَھوَب میں نکلنے بَھر سے اَمیر لوگوں کے چَہرے جَھلَس جاِیا کرئے ہیں۔ میں اِس کسان کا دَرْد بَیان کرنے کے لئے آج اِس مہاَن سَدَن میں کَھڑا ہوا ہوں، جو کڑاَکے کی تَھنڈ میں پانی اور کِچڑ میں کَھڑا ہو کر تَماَم دِیش واسیوں کے لئے اِن پَیدا کرتا ہے۔ حَب گِیہوں کی سَنبرِی پالی کَھیتی کو سَنبرا کرتی ہے، تَب اِس کسان کے مَرَجھانے ہونے چَہرے پر چَمک آ جاتی ہے۔ کسان اِس فِصل سے اُس بائدھ لیتا ہے، لیکن اِس کی یہ اُس سَرکاروں کی بے-رُخی اور نَظْراندازی سے تُوٹ کر بَکھر جاتی ہے۔

اِپ سَیْھا پْتی مہودے، سَرکاروں کا کسانوں سے بے-رُخی کا عاَلَم یہ ہے کہ مِٹْیا میں اِنی جاَنکاری کے مَطابِق سَرکار کی بی سَنسْتھا اِیْفَسی-اُنی۔ کا ماَننا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں 1,94,502 مِٹْرک تِن اناج بَرِباَد ہو چکا ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں اناج، پَھل اور سِزیاں جو صَحیح وِیوسْتھا نہ ہونے کی وجہ سے بَرِباَد ہوئی ہیں، اِن کا مَولیاَنکن کِیا جائے تو پتہ چلنا ہے کہ اِس بَرِباَد فِصل کی قِیْمَت 2,06,000 کروڑ روپے رُھی ہے۔ ہمارا کسان جتننا پَیدا کرتا ہے اِس کا لَگ بَھگ چوتھائی حَصہ ہی سَرکار سَرکَشْت رَکھ پاتی ہے اور اِیک تَبانِی یعنی 200 ملین تِن اناج کَہاں رَکھا جائے، اِس سَوال کے کارَن ہر سال 44 ہزار کروڑ روپے کا اناج سڑا کر پَھینک دِیا جاتا ہے۔

مہودے، اِگر بَرِباَد ہونے والا 'اِن' دُنیا کے بازار میں بیچ کر کسانوں اور گراموں کے وکاس پر خَرچ کِیا دِیا جائے تو مِیرا دَعوی ہے کہ گرام واسیوں کا پلايَن رُک سکتا ہے، کي�ں کہ سُوَیْدا-بَکْت گَرَم کی اُباَد رَھ سکتے ہیں۔ مہودے، سَرکاروں دُورا لگاتار شہروں اور گراموں کے

†[Transliteration in Urdu Script].

وکاس پر خرچ کا جو انٹر دکھائی دے رہا ہے، اس سے گاؤں اور شہروں کے بیچ نفرت پیدا ہو رہی ہے، جو دیش کی ایکتا، اکھنڈتا اور وکاس کے لئے گھاتک دکھائی دیتی ہے۔
میں سرکار سے پرزور مانگ کرتا ہوں کہ ادھیوگ پٹیوں کی طرح کسانوں کو سستی بجلی دی جائے اور سستی بیاز در پر لون دیا جائے اور بجلی، پانی، سڑکوں، اسکولوں اور اسپتالوں سے پکت گراموں کو بنایا جائے۔

مہودے، میری اس وینٹھا کو اگر سرکار سمجھ جائے تو باپو دوارا بولا گیا وہ جملہ سچ ہو جائے گا، جس میں باپو نے کہا تھا کہ گاؤں بھگوان نے بنائے ہیں اور شہر انسان نے!۔ دھنیواد۔
(ختم شد)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Shantaram Naik.

SHRI SHANTARAM NAIK (Goa): I want to read it. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Everybody is doing this. ...*(Interruptions)*... You mention the subject. ...*(Interruptions)*... I want to read this. ...*(Interruptions)*... This is a sensitive matter. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHANTARAM NAIK: I am telling you the subject. The subject is that Portuguese Government is claiming some land in Goa. ...*(Interruptions)*... It is a serious matter. ...*(Interruptions)*... You do not allow me to read. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You mention the subject and lay it on the Table. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHANTARAM NAIK: But I telling you what the subject is. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No problem. Once it is laid on the Table, it is in the public domain.

SHRI SHANTARAM NAIK: This is a sensitive matter. If there is any* in you, then you will allow me to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That remark is expunged. You cannot judge my*.
Mr. K.C. Tyagi.

**Demand to make changes in the land acquisition laws after consultation
with farmers and discussion on the matter in the House**

श्री के.सी. त्यागी (बिहार): माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से इस विशेष उल्लेख के द्वारा भारतीय किसानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

*Expunged as ordered by Chair.